



## اللہ تعالیٰ نے اپنی راہ میں جہاد کرنے والے کی حفاظت کی ذمہ داری لی ہے؛ اگر اس کی وفات ہوگئی، تو اللہ اسے جنت میں داخل کرے گا اور اگر وہ واپس آیا، تو ثواب اور مالِ غنیمت کے ساتھ واپس ہوگا

ابوہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی ﷺ نے فرمایا: ”اللہ تعالیٰ نے اس شخص کی سن لی ہے (اور مسلم کی روایت میں ہے کہ اللہ نے اس شخص کی حفاظت کی ذمہ داری لی ہے)، جو اس کے راستے میں (جہاد کے لیے) نکلا (اللہ فرماتا ہے): اگر اس کا یہ نکلنا محض میری راہ میں جہاد کے لیے اور مجھ پر ایمان اور میرے انبیا کی تصدیق کے جذبہ سے ہو، تو میں اسے اس بات کی ضمانت دیتا ہوں کہ یا تو اسے جنت میں داخل کر دوں گا، یا ثواب یا غنیمت کے ساتھ اس کے گھر میں واپس پہنچا دوں گا، جس سے وہ نکلا تھا“ مسلم کی روایت میں ہے: ”اللہ کی راہ میں جہاد کرنے والے کی مثال - اور اپنی راہ میں جہاد کرنے والے کو اللہ ہی بہتر جانتا ہے - قیام کرنے والے روز دار کی طرح ہے اور اللہ تعالیٰ نے اپنی راہ میں جہاد کرنے والے کی حفاظت کی ذمہ داری لی ہے؛ اس کی وفات ہوگئی، تو جنت میں داخل کرے گا ورنہ صحیح سالم ثواب اور مالِ غنیمت کے ساتھ واپس لائے گا“

[صحیح] [اس حدیث کی تمام روایات متفق علیہ ہیں]

اس حدیث میں اللہ کی راہ میں جہاد کرنے والے کے لیے اللہ کی طرف سے اس ضمانت کا بیان ہوا ہے کہ اللہ کی راہ میں جہاد کرنے والا محض اللہ پر ایمان رکھتے ہوئے خالص جہاد کے لئے نکلتا ہے، تو اللہ اسے تین چیزوں میں سے کسی ایک یا دو چیزوں کی ضمانت دیتا ہے اگر وہ شہید کر دیا گیا، تو اللہ اسے جنت میں داخل کرنے کا ضامن ہے اور باقی بچ گیا تو اسے ثواب یا غنیمت کے ساتھ گھر واپس پہنچائے گا یعنی یا تو ثواب کے ساتھ بغیر غنیمت کے یا ثواب اور غنیمت دونوں کے ساتھ۔ دوسری روایت، جسے صاحبِ عمدہ نے مسلم کی طرف منسوب کیا ہے، حالانکہ وہ متفق علیہ ہے، اس میں بیان کیا گیا ہے کہ اللہ کی راہ میں جہاد کرنے کی فضیلت یعنی ایسا عمل جو جہاد کے قائم مقام ہے، انسانی طاقت سے باہر کی چیز ہے؛ کیوں کہ وہ عمل لگاتار نماز، روزے اور قیام اللیل میں لگے رہنا ہے اسی لیے نبی ﷺ نے فرمایا کہ تم اس کی استطاعت نہیں رکھتے

<https://sunnah.global/hadeeth/ur/show/2957>